

CHAPTER TWO

PROPHET MUHAMMAD (Sallallahu 'alayhi wa Sallam) IS THE BELOVED OF ALLAH

1. If you want to gain the love of Allah, follow him

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

اے محبوب! تم فرمادو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں
دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

Say (O beloved Prophet, to the people): “If you love Allah, then follow me; Allah will love you and forgive you your sins, and Allah is Forgiving, Merciful”. (3:31)

2. Allah addresses him with love and affection

طه ﴿٢٠﴾

طه

Tā Hā. (20:1)

يس ﴿٣٦﴾

يس

Yā Seen. (36:1)

يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ ﴿٧٣﴾

اے جھرمٹ مارنے والے

O you wrapped up in garments. (73:1)

اے بالاپوش اورڑھنے والے!

O you enveloped in a mantle. (74:1)

3. Allah says: Realize that My Prophetic Messenger himself is with you

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ
 اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
 وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور
 مشقت میں پڑو لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں
 آراستہ کر دیا اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں

And know that among you is Allah's (Prophetic) Messenger; were he to follow your wishes in many a matter, you would surely fall into trouble, but Allah has endeared the Faith to you and has adorned it in your hearts, and He has made hateful to you unbelief and transgression and disobedience; such are those who are the rightly guided. (49:7)

4. Allah describes him with His Own Attributes of Rauf (Most Kind) and Rahim (Merciful)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
 عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

بیشک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا
گرا ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان

Assuredly, there has come to you a (Prophetic) Messenger from among yourselves, grievous to him is that you are overburdened, full of concern for you, for the believers (he is) most kind, merciful. (9:128)

5. Allah Himself praises him

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا
﴿٤٧﴾

اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضرناظر اور خوشخبری دیتا اور
ڈر سناتا

اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب
اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے

O Prophet! Indeed We have sent you as a beholder (witness) and a bearer of glad tidings and a warner. And as a summoner to Allah by His permission, and as an illuminating light. And give glad tidings to the believers that they will have a great bounty from Allah. (33: 45-47)

6. Possessor of Allah's Grace

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا
يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

اور اے محبوب! اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکا دے دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے

But for the Grace of Allah upon you (O beloved Prophet), and His Mercy, a party of them had resolved to deceive you, but they mislead no one except themselves and they will not hurt you at all. And Allah has sent down to you the Scripture (the Qur'an) and the Wisdom, and has taught you what you did not know, and the Grace of Allah toward you has been very great. (4:113)

7. He is a special favour of Allah (Sub'hānahū wa Ta'ālā)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
ءَايَاتِهِ ۗ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي

ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

بیشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے

Certainly, Allah has shown a special favour to the Muslim believers by raising among them a (Prophetic) Messenger from among themselves who recites to them His verses (of the Qur'an), and purifies them, and teaches them the Scripture (the Qur'an) and the Wisdom, although before (he came to them) they were certainly in manifest error. (3:164)

8. Allah does not punish people if he is in their midst

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ

يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب! تم ان میں تشریف فرما ہو
اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں

And Allah would not punish them while you are in their midst, and Allah will not punish them while they seek (His) forgiveness. (8:33)

9. Allegiance to him is allegiance to Allah

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ

نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ سِيئَاتِهِ

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا
ہاتھ ہے تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو
اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا

Surely, those who pledge allegiance to you (O beloved Prophet), pledge allegiance to Allah. The hand of Allah is over their hands. So whoever breaks his pledge, breaks it only to his own harm; and whoever fulfils his covenant which he has made with Allah, then on him will He bestow an immense reward. (48:10)